

المراجع

أ. المراجع العربية

أحمد منصور، مُجّد. الترجمة بين النظرية والتطبيق مبادئ ونصوص وقاموس للمصطلحات الإسلامية. القاهرة: دار الكمال، ١٤٢٧.

حقمقجي، جودت. مقدمة في الترجمة (نماذج وتطبيقات من اللغة التركية). الرياض: جامعة الملك سعود، ١٤٢٧.

ديداوي، مُجّد. علم الترجمة بين النظرية والتطبيق. سوسة - تونس: دار المعارف للطباعة والنشر، ١٩٩٢.

ديوى، إنتان سارى. العلاقة بين اللغة والترجمة. الأول. Vol. الرابع. التدريس، ٢٠١٦.

فوزي، أحمد عرفان. ترجمة الشعر في كتاب " لا تخزن " لعائض القرني (دراسة تحليلية في علم الترجمة (مالانج: جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، ٢٠٢٠)

عناي، مُجّد. نظرية الترجمة الحديثة. القاهرة: دار نوبار للطباعة، ٢٠٠٣.

نيومارك، بيتز. الجامع في الترجمة. بيروت: دار ومكتبة الهلال، ٢٠٠٦.

القرني، عائض. لا تخزن. مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢.

ب. المراجع الأجنبية

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.

Firdaus, dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Khadijah Zanuri, Siti. *Makna Kebahagiaan dalam Buku La Tahzan karya 'Aidh Al-Qarni*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Ma'mur, Ilzamudian. *Penerjemahan (Sejarah, Konsep dan Pemikiran)*. Serang: Media Madani, 2021.
- Qarni, 'Aidh al-. *La Tahzan jangan bersedih!* Jakarta: Qisthi Press, 2018.
- R Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Subandi. "Deskripsi Kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan" Vol. 11, No. 2 (Desember 2011).
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Yuliana. "Analisis Nilai Karakter Percaya Diri dalam Buku La Tahzan Karya Aidh Al-Qarni." Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021.
- Kamaliyah. *Teori & Praktik Terjemahan Indonesia-Arab*. Cetakan ke-1. Depok: Kencana, 2017.
- Dewi, Yunita, Cutiana Windri Astuti, dan Siti Munifah. "Kalimat Efektif pada Kolom Berita Koran Seputar Ponorogo Bulan Februari-Mei 2021." *Jurnal Leksis* 2, No.1 (April 2022).
- Finoza, Lamuddin. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Revisi 6. Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2018.
- Heryani, Heni. "Kemampuan Mahasiswa Menggunakan Kalimat Efektif dalam Menulis Karya Ilmiah." *Jurnal Pendidikan Bahasa* Vol. 8, No. 1 (Juni 2019).
- Hidayatullah, Syarif. *Jembatan Kata: Seluk-Beluk Penerjemahan Arab-Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Newmark, Peter. *A Textbook of Translation*. New York: Prentice-Hall International, 1988.
- Nurul Yaqin, M. Zubad. *Bahasa Indonesia Keilmuan*. Cet ke-II. Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

- Rasman. “الترجمة معناها وتاريخها.” *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta XIX*, No. 2 (Juli 2013): 329.
- Suyanto, Edi. *Membina, Memelihara, dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar; Kajian Historis-Teoritis dan Praktis Tulis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Trismanto. “Kalimat Efektif dalam Berkomunikasi.” *Majalah Bangun Rekaprima*, t.t.
- Widiastuti, Udiati. *Panduan Pustaka: Kalimat Efektif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Muhammad Abdulloh Suradi, “Dr. Aidh Abdullah al-Qarni, Penulis Motivasi Islam Terkenal di Dunia Masa Kini,” Maret 2009, diakses pada 25 Juni 2023, pukul 10:45 WIB, http://profil-insan-blogspot.com/2009_03_01_archive.html?m=1
- Burhanudin Raya Rambani, “Biografi KH Samson Rahman, Ulama Penerjemah Buku Internasional Best Seller - Banten Raya,” diakses pada 06 Mei 2023, pukul 22.26 WIB 2023 <http://www.bantenraya.com/pendidikan/pr-1271610156/biografi-kh-samson-rahman-ulama-penerjemah-buku-inernasional-best-seller>.
- “<https://kbbi.web.id/kritik>,” Diakses pada Desember, pukul 21:33 WIB